

ROOTWORDS SURAH DHARIYAT 1-60

يُؤْفِكُ	الْحَبَاكِ	يُسْرًا	فَالْجَارِيَاتِ	وَقُرًا	الدَّارِيَّاتِ// ذُرْوَا
ا ف ك	ح ب ك	ي س ر	ج ر ي	و ق ر	ذ ر و
وہی پھرتا ہے	راستے ہیں	آہستہ آہستہ	پھر چلتی ہیں	بوجھ	کھینچنے والیوں کی
ضَيْفٍ	تَنْطِفُونَ	يَهْجَعُونَ	يُفْتَنُونَ	سَاهُونَ	عَمْرَةَ
ض ي ف	ن ط ق	ه ج ع	ف ت ن	س ه و	غ م ر
مہمانوں	تم باتیں کرتے ہو	وہ سویا کرتے	عذاب دیے جائیں گے	بھولے ہوئے ہیں	جہالت میں
فَصَكَّتْ	صَرَّةً	فَأَوْحَسَ	سَمِينٍ	بِعَجَلٍ	فَرَاغٍ
ص ك ك	ص ر ر	و ج س	س م ن	ع ج ل	ر و غ
پھر پیٹ کر	شور مچاتی ہوئی	پھر خوف محسوس کیا	مونا (جینا ہوا)	بھجڑا	چل گئے
فَقَنَّبْنَا لَهُمْ	بِرُكْنِيهِ	تَرَكْنَا	مُسْتَوْمَةً	عَقِيمٍ	عَجُوزٌ
ن ب ذ	ر ك ن	ت ر ك	س و م	ع ق م	ع ج ز
پھر ہم نے انہیں چھینک دیا	مع اپنے ارکان سلطنت	چھوڑ دی ہم نے	نشان کر دیئے گئے	بانجھ	برہنیا
لُمُوسِعُونَ	بَدَيْبِنَاهَا	كَالزَّمِيمِ	الْعَقِيمِ	مُلِيمٍ	النِّيمِ
و س ع	ب ن ي	ر م م	ع ق م	ل و م	ي م م
وسیع القدرت ہیں	ہم نے بنایا	ریزہ ریزہ	نامبارک	قابل ملامت	سمندر
ذُنُوبًا	الْمَتِينِ	بِمَلُومٍ	فَقِيرُوا	الْمَاهِدُونَ	فَرَشْنَاهَا
ذ ن ب	م ت ن	ل و م	ف ر ر	م ه د	ف ر ش
عذاب/ باری	مضبوط ہے	کوئی الزام/ ملامت	پھر دوڑو	بچھانے والے ہیں	بچھایا ہم نے